

مکان پرستی میں رجایا کلمہ، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین
کے بانپیں میں، البتہ اثر کے روپ میں اور نہ فرمائیں۔

مسکو علیہ خوبصورت قادریانی ورنے سے

حضرت مولانا سعید الحمد ضاپالپنوری
استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
و ناظم عمومی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت
تاشیش

کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند

رِدِ قادریات کے موضوع پر گیارہ منتخب کتابیں

- | | |
|----|---|
| ۱ | اسلام اور قادریات کا تقابلی مطالعہ ۲۵/- |
| ۲ | نزول عیسیٰ و ظہور مہدی ۷/- |
| ۳ | تحقیق الکفر والاکیمان ۱۱/- |
| ۴ | اسلام اور مرزا یت کا اصولی اختلاف ۲/- |
| ۵ | دعاویٰ مرزا ۵/- |
| ۶ | ختم نبوت ۷/- |
| ۷ | مسیح موعود کی پہچان ۳/- |
| ۸ | قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ ۳/- |
| ۹ | مناقصات مرزا ۳/- |
| ۱۰ | فلسفہ ختم نبوت ۳/- |
| ۱۱ | مسئلہ ختم نبوت اور قادریاتی وسو سے ۵/- |

مکتبہ دارالعلوم دیوبند

فہست رمضانیں

صفحہ

رمضانیں

۷

تقریب

۹

آغاز تقریر

۱۰

مرزا قادیانی کے ۲۵ دعادی

۱۲

قادیانیوں کے عقائد

۱۱

① مرزات ادیانی مجدد تھا

۱۱

حضرت علیؑ کا اپنی الوہیت کے قاملوں کو آگ میں جلا دینا۔

۱۳

آگ میں جلانے کا حکم

۱۴

② قادیانی بنی تھا

۱۱

③ مسیح موعود تھا

۱۵

مسیح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں

۱۶

مسیح علیہ السلام کا ذکر احادیث میں

۱۷

④ قادیانی مجازی بنی تھا

۱۸

ظلی بنی، بروزی بنی اور غیر تشریعی بنی کا مطلب

۱۸

قادیانی کے دعوے کے بطلان پر صریح آیت کریمہ

مضا میں

صفحہ	
۱۸	آیت خاتم النبیین کا سبق
۲۱	خفی فی نفسک کا صحیح مطلب
۲۲	لکن حرف استدرک لازم کی وجہ
۲۳	روحانی ابوت بنوی ۴
۲۴	آپ صرف امت اجابر کے روحانی باب ہیں۔
۲۵	آپ امم سابقہ کے بھی روحانی باپ ہیں۔
"	خاتم النبیین کی شرح
۲۷	ذوات اور صفات
"	موصوف بالذات اور موصوف بالعرض
۲۸	موصوفات بالعرض کا منتهی موصوف بالذات ہوتا ہے
۲۹	بنی اور رسول میں نسبت
۳۱	حضرت ناؤتوی قدس سرہ کا ارشاد کہ تمام نبیوں کی } بوت آپ کی بوت کا فیض ہے۔ }
۳۲	تحذیر الناس کا تعارف
۳۳	حضرت ناؤتوی قدس سرہ کی تصریح کہ جو شخص حضور اکرم } صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بوت کا قائل ہے وہ کافر ہے }

مصنایں

صفہ

- ۳۵ ختم بتوت کی تین قسمیں اور آپ کا تینوں اعتبارات سے خاتم ہونا —
- " ختم بتوت ربی ①
- ۳۶ " " مکانی ②
- " " زمانی ③
- " ختم بتوت ربی اور زمانی میں ملازم۔
- ۳۷ ناسخ کیلئے منسوخ سے افضل یا مساوی ہونا ضروری ہے —
- حدیث: لوکان بنی بعدی لكان عمر بن الخطاب " { سے استدلال
- ۳۹ لوعاش ابراهیم لكان صدیقانیتاً { سے قادریانی استدلال کا جواب۔
- ۴۰ مرفوع حدیث ضعیف ہے ①
- ۴۱ صحیح حدیث موقوف ہے ②
- ۴۲ ان حدیثوں سے امکان واقعی ثابت نہیں ہوتا ③
- ۴۳ اور امکان فرضی مضر نہیں ہے۔
- " تو کام دخول کبھی ممکن ہوتا ہے کبھی ممتنع
- ۴۵ حضور ﷺ کے بعد بتوت محال ہے۔

مضا میں

صفحہ

۳۶

احادیث ختم نبوت
پہلی حدیث

۳۷

دوسری حدیث

۳۸

تیسرا حدیث

"

چوتھی حدیث

۵۰

حضرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبوٹا بی بھوکتا ہے

"

میسح موعد علیہ السلام کا تعارف

۵۱

قادریانی اپنے آپ کو میسح موعد تابت کرتا ہے

"

الی متوفیک کا صحیح مطلب

۵۲

حیات میسح کی دوسری دلیل

۵۳

الی متوفیک کی دوسری تفسیر

۵۹

حیات میسح علیہ السلام اور نزول میسح کے سلسلہ میں قادریانیوں کا

ایک دسوئہ اور اس کا جواب

۶۰

میسح علیہ السلام با وصف نبوت نزول فرمائیں گے
مگر عمل آنحضرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کریں گے

۶۱

حضرت مسیح علیہ السلام اس امت کے مجتہد مطلق ہوں گے۔

۶۲

قول عائشہؓ لا بنی بعدی نہ کہو کا مطلب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقریب

از حضور مولانا فاریض محمد عثمان حسن صاحب مذکول

ملکتِ اسلامیہ ہند کی تاریخ شاہد ہے کہ برصغیر میں جب بھی کوئی اسلام دین تحریک اٹھی اور مسلمانوں کے خلاف کسی فتنہ نے سراٹھایا تو فرزندانِ دارالعلوم مردانہ وارسا منے آئے ہیں اور ان تحریکات کا کامیاب مقابلہ کیا ہے، عیسائیت و آریت کا فتنہ ارتداد ہو، یا رفض و تشیع و بدعتات کا سیل رواں، انکا رحدیث کافتنہ ہو یا عدم تقید کی وبا، ہر ایک کا چیلنج فرزندانِ دارالعلوم نے قبول کیا اور آخر کار باطل کا سرنگوں کر کے امت مسلمہ کو الحاد و زندقہ اور زیغ و ضلال سے بچالیا، بفضلہ تعالیٰ آج بھی یہ قلعہ اسلام (دارالعلوم) خرمن باطل کے لئے برق بے اماں بنा ہوا ہے چنانچہ چند سال پیشتر اربابِ دارالعلوم نے محسوس کیا کہ قاریانیت کا ارتدادی فتنہ (جس کی سرکوبی کا فرضیہ تقسیم ہند سے پہلے فرزندانِ دارالعلوم باحسن و جوہ انجام دے چکے تھے) از سرفراز ابھارہ ہے تو پھر اس کے بھرپور تعاقب کے لئے کربستہ ہو گئے۔ اور اکتوبر ۱۹۷۴ء میں تحفظ ختم بیوت کے عنوان سے ایک عالمی اجلاس منعقد کر کے اہل نظر اور عام مسلمانوں کو اس عظیم فتنہ سے ہوشیار رہنے کی جانب متوجہ کیا، جسکے بھرپور تعالیٰ بہت مفید نتائج برآمد ہوئے، اور اجلاس کے

موقع پر روزِ قادریانیت کے کام کو مسلسل جاری رکھنے کے لئے کل ہند مجلس
حفظ ختم بتوت کا قیام بھی عمل میں آگیا۔

اسی سلسلہ میں رجاءں کار کی تیاری کے واسطے مذکورہ مجلس کی
جانب سے دارالعلوم دیوبند میں ۱۳۲۲ھ جمادی الاول ۹ شوال ایک دس
روزہ تربیتی کمپ کا اہتمام کیا گیا جس میں مشہور مناظر اسلام حضرت مولانا
سید محمد اسماعیل صاحب کٹکی نے از اول تا آخر شرکت فرمائی اور روزانہ قادریانیت
کے نشیب و فراز اور اس کی تردید کے طور و طریق سمجھاتے رہے۔ اور حضرت
موصوف کے علاوہ دارالعلوم کے اساتذہ کرام نے بھی ہر روز شرکار کمپ کو
اس موضوع پر اپنے علمی افادات میں مستفید فرمایا۔

چنانچہ زیرنظر سالہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالپوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
و ناظم عمومی کل ہند مجلس حفظ ختم بتوت کی وہ گرانقدر تقریر ہے جو موصوف نے کمپ کے
اختتامی اجلاس میں دارالحدیث تھانی میں فرمائی تھی، اس تقریر میں مولانا موصوف نے
مسئلہ ختم بتوت و حیات علیہ السلام پر فضیلی روشنی ڈالی ہے اور قادریانیوں کے زینع و ضلال
و فریب کاریوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ فخر اہم اللہ تعالیٰ ٹیپ ریکارڈ سے نقل کر کے مولانا موصوف
کی ترتیب و تتفیع کے بعد افادہ عام کی غرض سے اسکو شائع کیا جا رہا ہے۔ خداوند کریم
اسکے افادہ کو عام و قابل فرمائے۔ آمین۔

محمد عثمان عفی عن

(ناظم کل ہند مجلس حفظ ختم بتوت دیوبند) ۲۳۔ ۱۳۲۰ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدَهُ
اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلَهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهُدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثِيرًا . امَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا كَانَ مُحَمَّدًا بِأَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَيِّكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَابُونَ يَزْعُمُ كُلُّهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَّا
خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيٌّ بَعْدِنَا

مکہید:- صدر محترم! حضرات مہماں کرام! حضرات اساتذہ
وارالعلوم دیوبند! اور وہ اساتذہ جو مختلف مدارس سے تشریف
لائے ہیں! اور عزیز طلباء! — آج کے جلسہ کی عرض غایت
آپ حضرات کے سامنے آچکی ہے، مجھے اس سلسلہ میں فرمایا گیا تھا

بلکہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ قادیانیت اور روز قادیانیت کے سلسلہ میں طلباءِ عزیز کے سامنے کچھ ابتدائی باتیں بیان کروں جن سے طلباءِ عزیز کو اس مسئلہ کے سمجھنے میں مدد ملتے اور وہ اس مسئلہ کو سمجھنے کے قریب ہو سکیں، یہ موضوع مجھے دیا گیا تھا، یعنی اس مسئلہ پر مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ یہاں جو اساتذہ دارالعلوم تشریف فرما ہیں یا باہر سے آتے ہوئے معزز مہمان اساتذہ موجود ہیں ظاہر ہے کہ وہ میری آج کی گفتگو کے مخاطب نہیں ہیں، میں جو باتیں عرض کروں گا وہ تمام باتیں ان حضرات کے سامنے دش روختک مکرر سہ کر رہی ہیں۔ اس لئے میری گذارشات کے مخاطب صرف عزیز طلباء ہیں یہ اکابر مخاطب نہیں ہیں۔

قادیانی کے دعاؤں

سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی کا نظریہ کیا تھا؟ اور اس کے دلائل کیا تھے؟ اس کا نظریہ اور اس کے دلائل سمجھ میں آجائیں تو آپ حضرات کے لئے اس کا جواب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ --- جب تک کسی آدمی کا نظریہ اور اس کا دعویٰ سمجھ میں نہ آئے اس کا جواب اور اس کا رد سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ الغرض سے پہلا مرحلہ یہی ہے۔ اس مرحلہ کیلئے میں نے سوچا تھا کہ اس کے

دعوے جمع کروں میکر سامنے یہ کاپی رکھی ہے اس میں اس کے
 پچیس^{۲۵} دعوے ہیں اور یہ صرف مُشتمل نمونہ از خروارے ہیں۔ یہ پچیس^{۲۵}
 دعوے اس کے سارے دعوے نہیں ہیں ۔۔۔۔۔ وہ کہتا ہے
 کہ میں خدا کا باپ ہوں، وہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، وہ کہتا
 ہے میں خدا کی بیوی ہوں، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، وہ کہتا ہے
 میں امتنی ہوں، وہ کہتا ہے میں محدث ہوں، وہ کہتا ہے میں مجدد
 ہوں، ۔۔۔۔۔ میں مہدی ہوں، میں مسیح ابن مریم ہوں
 میں ظلی بنی ہوں، میں بُروزی طور پر محمد ہوں، میں رسول اللہ ہوں
 میں خاتم النبیین ہوں، میں مظہر انبیاء ہوں، میں عین محمد ہوں،
 میں محمد سے افضل ہوں، میں کرشن جی ہوں، میں جے سنگھ بہادر
 ہوں، میں مسٹر گوپال ہوں، میں مجراسود ہوں، میں بیت اللہ ہوں
 میں میخ موعود سے بہتر ہوں۔ میں مریم بھی ہوں، اور میں عیسیٰ بھی ہوں
 میں فرشتہ ہوں، میں میکائیل ہوں، میں خدا کے مثل ہوں۔ یہ اس کے
 پچیس^{۲۵} دعوے ہیں اور یہ دعوے اس کے دعوؤں کا چھوٹا سا نمونہ
 ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کے کل دعوے ہیں، بلکہ یہ اس کے دعوؤں
 کا عشرہ عشرہ ہے۔ اب میں اس صورت حال میں آپ حضرات کو کیا
 سمجھاؤں؟ یہ دعوے خود ایک بھول بھلیاں ہیں جن کو سُن کر، یہ

انسان چکرا جاتا ہے نیر قادریان تو اپنے انعام کو پہنچا مگر آج جو
اس کی امت ہے وہ تین چار قسم کے عقیدے قادریان کے بارے میں
رکھتی ہے سب قادریان اس کے بارے میں ایک عقیدہ نہیں رکھتے۔

(۱) — قادریان مجدد تھا:- ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قادریان اس
امت کا مجدد تھا وہ قادریان کو صرف مجدد مانتی ہے اس سے زیادہ
چھ نہیں مانتی — اس جماعت کو جو قادریان کو مجدد مانتی تھی
مرزا غلام احمد قادریان کے خلفاء نے مرتدا اور اپنی جماعت
سے خارج قرار دیا ہے تاہم وہ اسی کو مانتے رہے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے چند لوگ پکڑ کر لئے گئے جو
کہتے تھے کہ حضرت علیؑ خدا ہیں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دورِ خلافت
کا واقعہ ہے جب یہ لوگ حضرت علیؑ کے سامنے پیش کئے گئے تو
حضرت علیؑ نے فرمایا کم بختو! میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں،
ان لوگوں نے جواب دیا ہیں آپ ہی خدا ہیں۔ حضرت علیؑ نے
ہر چند کوشش کی کہ وہ لوگ توبہ کر لیں مگر انہوں نے تو بہ نہیں کی۔
حضرت علیؑ نے حکم دیا ان کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ وہ سب زندہ
بلادی ہے گئے وہ جلتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ علی خدا! علی خدا!
علی خدا! جلتے رہے اور علی خدا! علی خدا! کہتے رہے۔

جب حضرت ابن عباسؓ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو فرمایا کہ اگر پر معاشر
میکر سامنے پیش ہوتا تو میں انھیں قتل کروتا تا، انھیں آگ میں نہ جلوتا
جب ابن عباسؓ کی اس بات کا حضرت علیؓ کو علم ہوا تو حضرت علیؓ نے
فرمایا صدق ابن عباسؓ یعنی ابن عباسؓ نے پسح فرمایا۔ گویا حضرت
علیؓ کو مسئلہ معلوم تھا کہ آگ میں جلانا صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالیں گے دوسروں کے لئے
یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کو آگ میں جلانے کی سزادیں۔ حدیث
شریف میں ہے کہ إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ^{رَبُّ آگ کی سزادیا}
اللہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہے)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت علیؓ کو یہ مسئلہ
علوم تھا تو پھر کیوں جلایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے خدا تو
حضرت علیؓ تھے، اور خدا آگ میں جلا سکتا ہے اس لئے ان کے خدا
نے ان کو آگ میں جلا دیا، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟

لہ یہ محض ایک طالبعلماء لطیف تھا۔ صحیح جواب یہ ہے کہ آگ میں جلانے کی سزادیا جائز ہے
مگر خلاف ادیٰ ہے۔ قال العلامہ علی القاری فی المرقّات رضی اللہ عنہ، باب قتل اهل
الرّدّۃ (ج ۲) : والاحراق بالنّار، و انْهَى عَنْهُ كَمَا ذُكِرَ أَبْنُ عَبَّاسٍ، لَكِنْ جُنُوزُ
للتّشّدِيْد بالّكّفّارِ، و المبالغة فی التّكّايةِ و التّكّالِ، كالمُثُلّةِ، اسی طرح ضرورت کے وتنبی
آگ میں جلانا جائز ہے۔ جیسے گرم پانی سے جوں اور کھمل مارنا، یا تیا بھڑنوں کا چھٹے جلانا۔ ۱۲-

الفرض جس طرح حضرت علیؓ کے سمجھنا نے پر بھی وہ لوگ اپنے عقیدے سے نہیں پھرے، قادریانی کے خلفاء مجدد مانے والی جماعت کو مرتد اور اپنی جماعت سے خارج کرتے رہے اور فاسق و کافر قرار دیتے رہے، مگر وہ اپنے عقیدے پر اڑائے رہے۔ اور آج تک ان کا یہی عقیدہ ہے کہ غلام احمد قادریانی مجدد تھا۔ العیاذ باللہ!

۲ — قادریانی بنی تھا:- ایک دوسری جماعت یہ کہتی تھی کہ غلام احمد قادریانی بنی تھا، نہ صرف بنی بلکہ خاتم النبیین ہی تھا اور تمام نبیوں سے بہتر اور افضل ہی تھا۔

۳ — قادریانی مسیح موعود تھا:- ایک تیسرا جماعت ان میں سے یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ وہ مسیح موعود تھا۔

مسیح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں:- فرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلشَّاعَةِ اور وہ قیامت کے یقین کا ذریعہ ہیں لہ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لایں گے تو لوگوں کو قیامت کا

علم ہو گا ان کی تشریف آوری قیامت کی نہایت پختہ اور واضح دلیل ہوگی۔ اس پختہ دلیل کے بعد یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ قیامت آئے گی یا نہیں؟ ان لوگوں کو بھی قیامت کا یقینی علم حاصل ہو جائے گا جو قیامت کا اذکار کرتے ہیں یا شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔

میسح علیہ السلام کا ذکر احادیث میں:- قرآن کریم میں توزول مسیح علیہ السلام کی طرف صرف اشارہ ہے۔ لیکن احادیث شریفہ میں اسکو بہت کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں تقریباً سو حدیثیں ہیں۔ امام العصر حضرت علامہ اوزر شاہ کشمیری[ؒ] کی مسامعی جمیلہ قادریانیت کے ناپاک پورے کو جرٹے سے اکھاڑنے کے سلسلہ میں سب سے زیادہ ہیں حضرت موصوف نے نزول مسیح علیہ السلام کے سلسلہ کی تمام حدیثیں کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے جس کا نام التصویر بعاتواتر فی نزول المیسح ہے یعنی حضرت علیسی علیہ السلام کے نزول کے بارے میں صراحت جو حدیثیں ہیں اور جو حدود تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں ان کو جمع کیا ہے یہ کتاب عرب میں شیخ عبدالفتاح ابو غذہ کے حاشیہ کے ساتھ چھپ گئی ہے، طلبہ عزیز کو چاہئے کہ اس کتاب کو حمل کریں

۱۰۰ اس کتاب میں ۵۷ مرفوع حدیثیں نزول مسیح علیہ السلام کے سلسلہ میں جمع کی گئی ہیں

اور اس کا مطالعہ کریں۔

الغرض قادیانیوں کی تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ مسیح جن کے آئے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مرتضیٰ غلام احمد قادیانی ہے۔

۲ — قادیانی مجازی نبی تھا:- ایک اور جماعت یہ کہتی ہے کہ قادیانی نبی تھا، مگر حقیقی نبی نہیں تھا بلکہ مجازی نبی تھا۔

ماجرا نبی کی تعبیر ان کے یہاں "غیر تشریعی نبی" ہے۔ غیر تشریعی نبی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی شریعت اس کو نہیں ملی ہے بلکہ سابق نبی سرور کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت نبی ہے اور ان کی شریعت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لئے مسیح ہوا ہے اس کو نئی شریعت نہیں دی گئی ہے اسی قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے بھیجا گیا ہے، یہ ہے غیر تشریعی نبی کا مطلب۔ — دوسری تعبیر ہے "ظلّ نبی" ظلّ معنی سایہ۔ ظلّ نبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔

ایک تیسری تعبیر ان کے یہاں ہے "بروزی نبی" بروز کے معنی ہیں ظاہر ہونا بَرَزَ بَرُزُ کے معنی ہیں ظاہر ہونا، نمودار ہونا اور ان کی مراد بروزی نبی سے یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے قادریانی کی شکل میں یا وجود اختیار کیا ہے۔ یعنی غلام احمد قادریانی حضور ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دُنیا میں تشریف لائے ہیں وہ غلام احمد کی ذات میں حلول کر گئے ہیں جس طرح ہندو عقیدوں میں اللہ تعالیٰ او تاروں میں حلول کرتے ہیں۔

یہ ہیں قادریانیوں کی تعبیرات: ظلیٰ بنی، بُرُوزِیٰ بنی، مجَازی بنی، اور غیر تشریعی بنی۔ اور یہ ہیں ان کے عقائد، لہذا اس وقت ہم قادریانی کے سب دعوؤں کو چھوڑتے ہیں اور اس کی امت کے مزعومات کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی وہ مجدد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ صحیح موعود ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ ظلیٰ، بُرُوزِیٰ اور غیر تشریعی بنی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ حقیقی بنی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ چار دعوے ہیں ان دعوؤں کے دلائل کیا ہیں؟ جس طرح اس کے دعوے انجھے ہوئے ہیں اسی طرح اس کے دلائل بھی انجھے ہوئے ہیں۔ اس کے دلائل صرف وساوس ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس موضوع پر علماء اسلام نے دیسیع لٹریچر تیار کر دیا ہے۔ جس سے قادریانی دلائل کا کھوکھلا پن کھل کر لوگوں کے سامنے آچکا ہے۔ جہاں تک اس کے مجدد ہونے کا تعلق ہے ہمیں اس مسئلہ پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ اُسے مجدد مانتے

و اے بہت تھوڑے لوگ ہیں اس نے اصل گفتگو جو ہمیں کرنی ہے وہ دو مسئلے ہیں ایک قادریانی کا بنی ہونا، اور دوسرا اس کا مسیح موعود ہونا۔ تعلیمات اسلامی کی رو سے اس کے یہ دونوں دعوے غلط ہیں، وہ حضن جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں صداقت کی بوتک نہیں ہے اور جھوٹا شخص مجدد بھی کیسے ہو سکتا ہے؟۔

قرآن کریم میں سب سے واضح آیت جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے یہ ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِ اللَّهِ، وَ لَكِنْ رَسُولًا لِلَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (ترجمہ: محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہؐ کے رسول ہیں اور رب نبیوں کے ختم پر ہیں)۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں)۔ اس آیت کا شانِ نزول کیا ہے؟ پہلے شانِ نزول سمجھنا چاہئے کیونکہ اس آیت میں جو لفظ خاتم النبیین آیا ہے اس کو بغیر شانِ نزول کے سمجھنا ذرا مشکل ہے۔

یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی ہے اس سورہ میں اوپر سے یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبنی یعنی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کا نکاح

آپ کی پھوپھی زادہ ہن حضرت زینب سے ہوا تھا۔ لیکن دونوں میں بخاؤ نہیں ہو سکا۔ اس لئے کہ حضرت زینبؓ خاندان قریش سے تھیں اور حضرت زید بن حارثہ غلام رہ چکے تھے، آزاد کرنے کے بعد حضورؐ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، چونکہ ان پر غلامی کا داع رکا ہوا تھا اور حضرت زینبؓ اعلیٰ خاندان کی خاتون تھیں اس لئے یہ رشتہ بڑی مشکلوں کے بعد یعنی اشداور رسولؐ کے حکم سے ہوا تھا لیکن یہ رشتہ قائم نہ رہ سکا میاں بیوی میں ناچاقی رہنے لگی اور صورت حال دن بدن بگڑتی گئی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر دامنگیر ہوئی کہ خدا نخواستہ اگر زید نے اپنی اہلیہ کو طلاق دیدی تو کیا ہو گا؟ اول تو بڑی مشکل سے رشتہ طے ہوا ہے، پھر اگر حضرت زیدؓ نے طلاق دیدی تو وہ حضرت زینب کے لئے مزید رنج کا

۱۷ سورۃ الاحزان آیت ۲۳ اسی سلسلہ میں نازل ہوئی ہے پوری آیت یہ ہے
 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا أَقْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
 الْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ لَا لِمَبِينًا۔
 ترجمہ:- اور کسی ای مادر اور کسی ای ماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے جبکہ اللہ اور اس کا رسول کشمی کام کا حکم دیں کہ (پھر) ان کو ان دمومین، کے اس کام میں کوئی اختیار (باقی) رہے۔ اور جو شخص اشداور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح مگرا ہی میں پر ۲۳۔

سبب ہوگی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے منہ بولے بیٹے کو
برا برا سمجھاتے رہے ہے کہ کسی طرح بھی نبھاؤ کی کوئی صورت پیدا کرو۔ مگر
نبھاؤ نہیں ہو سکا۔ اب یہ فکر حضورؐ کو دامن گیر ہوئی کہ طلاق کے
بعد حضرت زینبؓ کا معاملہ بہت بیچیدہ ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے
کہ غلام کی بیوی، پھر اس نے بھی طلاق دیدی یہ داع غ کیسے دھو یا
جائے گا؟ ————— حضور علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات
تھی کہ اگر خدا نخواستہ حضرت زید طلاق دیدیتے ہیں تو حضور خود
حضرت زینبؓ سے نکاح کر لیں گے تاکہ ان کے غنم کا مدارا ہو سکے
اور ان پر لگا ہوا داع دصل جاتے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی بچوں پھیزاد بہن تھیں جن سے نکاح جائز تھا۔ یہ حضورؐ کے ذہن
میں تھا، لیکن حضورؐ کو پریشانی یہ تھی کہ حضرت زید حضورؐ کے متبنی
تھے، اور ان کو لوگ حضورؐ کا بیٹا سمجھتے تھے اور بیٹے کی بیوی بھوکھلاتی
ہے اور بھوکھنے والے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے اگرچہ
حضرت زید حضورؐ کے نسبی بیٹے نہیں تھے لیکن دنیا یہی کہتی تھی کہ
وہ حضورؐ کے والے ہیں جب حضورؐ نکاح کرتیں گے تو نہ معلوم
مشرکین اور یہود حضور کی شان میں کیا کیا بکیں گے وہ لوگوں سے
کہتے پھر یہیں گے کہ دیکھو! والے کی بیوی سے نکاح کر لیا، دیکھو!

بھو سے نکاح کر لیا، حضورؐ کو یہ پریشانی لاحق تھی، مگر متله کا حل بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی یہ بات کسی سے ظاہر نہیں فرمائی۔^{۱۷}

پھر ایسا ہوا کہ حضرت زید نے اچانک ایک روز حضرت زینبؓ کو طلاق دیدی وہ عدت میں بیٹھیں اور غم و اندوہ کے بادل ان پر چاگتے مگر جو ہنسی عدت پوری ہوتی وحی نازل ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپؐ کا حضرت زینبؓ سے نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کر دیا ہے۔^{۱۸}

اب جو حضورؐ کو خطرات اور اندیشے تھے وہ ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ منافقین آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے، یہود اور مشرکین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ دیکھو! اپنی بھو سے نکاح کر لیا۔

لَهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيُو كے سلسلہ میں جو تفسیری روایات ہیں اُن کے بارے میں محدث ابن کثیرؓ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ: أَحْبَبْنَا أَنْ تُضْرِبَ عَنْهَا صَفْحًا لِعَدَمِ صِحَّتِهَا، فَلَا تُؤْرِدُهَا۔ (ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اُن روایات سے پہلو تھی کریں، کیونکہ وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ پس ہم ان کو بیان نہیں کر رہے ہیں) ۱۹۔
لَهُ رُوحُ الْمَعَانِی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نکاح دنیا میں ہوا ہے اور رُوحُ جنَاگاہ میں اسناد مجازی ہے۔ ای: اصرناک بتزویجها۔ ۲۰۔

اس مسئلہ کو قرآن نے صاف کیا اور معاملہ کی وضاحت فرمائی کہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں اور کسی کو لڑکا کہہ دینے سے وہ لڑکا نہیں ہو جاتا۔ یہ آیت کریمہ اسی سلسلہ میں نازل ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے : - مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلِكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ۔ یعنی آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زمانہ ماضی میں بھی آپ کسی مرد کے باپ نہیں تھے۔ کیونکہ آپ کے جو میں یا چار صاحبزادے پیدا ہوئے تھے وہ دو ڈھانی برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے آپ کسی رجل کے باپ نہیں تھے۔ کیونکہ کوئی صاحبزادہ رجل کی حد تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ جب حضرت زید آپ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کی بیوی زینب سے زکاح کرنا جائز ہے۔ یہ واقعہ اس آیت کریمہ کا پس منظراً (شان نزول) ہے۔

سوال : یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لکن حرف استدرک کیوں لا یا گیا ہے؟ لکن حرف استدرک تو اس شبہ کو دور کرنے کے لئے لا یا جاتا ہے جو کلام سابق سے پیدا ہوتا ہے یہاں کیا شبہ اور خلجان ہے جس کو دور کرنے کے لئے لکن حرف استدرک لا یا گیا ہے؟

جواب : تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مَا كَانَ مُحَمَّدًا

لہ جواب کی ایک تحریر اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ جب مَا كَانَ مُحَمَّدًا الحد

اباً حَدَّمَنْ زَجَالَكُمْ کے ذریعہ ابوت کی نفی کی گئی اور یہ فرمایا گیا
 کہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ خیال
 پیدا ہو کہ جب آپ سے ابوبت جسمانی کی نفی کر دی گئی تو اسی
 سے ایمانی اور روحانی باپ ہونے کی بھی نفی ہو گئی یعنی حضور کسی کے
 باپ نہیں ہیں نہ جسمانی نہ روحانی۔ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا اسی شبہ
 کے ازالہ کے لئے ارشاد فرمایا ہے ولکن رسول اللہ البتہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ہوا صغیری، اور کبریٰ آپ یہ
 لگائیں کہ ہر بُنیٰ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ پس ثابت
 ہوا کہ آپ امت میں سے کسی کے جسمانی باپ تو نہیں ہیں مگر آپ
 امت کے روحانی باپ ضرور ہیں کیونکہ آپ اللہ کے رسول
 ہیں اس مضمون کی وضاحت ایک دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی
 ہے کہ وَإِذْ قَوْمٌ أَتَهَا تُهْمُّ لَهُ اور بُنیٰ کی بیویاں امت کی مائیں
 ہیں پس آپ پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ الفرض ولکن
 رسول اللہ سے حضور کی ابوت روحانی ثابت کرنا مقصود ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲ کا) من رجالکم سے ابوبت جسمانی کی نفی کی گئی تو زم کا ایہا
 پیدا ہوا، جس کو دور کرنے کے لئے لکن سے کلام بڑھایا گیا ہے یعنی لکن المزبور
 مدرج ہے۔ اور مدرج کیونکہ اس کی تشریع آگے آرہی ہے ۱۲۔

دوسراسوال | یہاں یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ آپ کس امت کے روحانی باپ ہیں؟ آپ کی امتِ دو قسم کی ہے امتِ دعوت اور امتِ اجابت۔

امتِ اجابت وہ ہے جس نے آپ کی دعوت پر بیک کہا اور اسلام کے حلقہ گوش ہو گئے۔ اور امتِ دعوت وہ تمام لوگ ہیں جنھوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی مثلاً یہود و نصاریٰ اور مجوہ، اور تمام مشرکین اور کفار و ملحدین جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ! اور حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو یہ امتِ دعوت ہیں۔

جواب | تو جاننا چاہئے کہ آپ صرف امتِ اجابت کے روحانی باپ ہیں، امتِ دعوت کے روحانی باپ نہیں ہیں اور آپ کی ازدواج مطہرات صرف امتِ اجابت کی روحانی مائیں ہیں۔

لہ اس کی وضاحت حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی مشہور کتاب "آپ حیات" میں ہے کہ ابوتِ رُوحانی کا مبنی ہیاً کلِ ایمانی پر ہے اور ظاہر ہے کہ ان ہیاً کل کا وجود صرف مومنین اور ان کے پیغیر کے درمیان ہے۔ بنی اور امتِ دعوت کے درمیان ان ہیاً کل کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے بنی اُن کے لئے روحانی باپ نہیں ہیں۔ ۱۲

ایک اور سوال | یہاں پہنچ کر ایک اشکال ہوتا ہے کہ مچھلی امتوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روحانی باپ ہیں یا نہیں؟

جواب | دخاتِم النبیین میں اسی سوال کا جواب ہے کہ آپ تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم کی تشریع ابھی آتی ہے کہ خاتم کے معنی ہیں تمام نبیوں کی نبوت آپ کی نبوت کا فیض ہے جب تمام نبیوں کو نبوت آپ کے طفیل میں ملی ہے تو آپ تمام انبیاء کے بھی روحانی باپ ہوئے اور ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ پس آپ تمام امتوں کے روحانی دادا ہوئے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبی الامم ہیں، اسی طرح نبی الانبیاء۔ بھی ہیں۔

خاتم النبیین کی شرح | اس کے بعد جانا چاہئے کہ ولکن رسول اللہ میں تو کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ حضور صَلَّی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اُن کے رسول ہیں اور امتِ اجابت کے روحانی باپ ہیں۔ لیکن جو دوسرے اُنکردا ہے دخاتِ النبیین اس کی تشریع و توضیح ضروری ہے۔

سب سے پہلے لفظ خاتم کو سمجھئے اس کا ماذہ ختم ہے ختم

يَخْتِمُ بَابُ فَرْبَ سَعَىٰ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ بِكَسْرِ التَّاءِ إِلَيْهِ فَاعْلَمُ
أَوْ لِفْتَحِ التَّاءِ إِلَيْهِ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ فَاعْلَمُ كَمْ يَعْنِي مِنْهُنَّ
يُعَنِّي بِأَوْلَىٰ كَمْ يَعْنِي بِهِنْجَا نَهْجَا نَهْجَا وَالْأَوْلَىٰ إِلَيْهِ فَتحَ التَّاءِ
كَمْ يَعْنِي مِنْهُنَّ وَهُوَ الْجِنْ جِنْ كَمْ يَعْنِي ذِرْيَعَةَ كَمْ يَعْنِي كَمْ يَعْنِي
جِنْ كَمْ يَعْنِي
غُورِيَّ كَمْ يَعْنِي كَمْ يَعْنِي

ابن فارس (متوفی ۳۹۵ھ) بہت بڑے امام لفت ہیں ان کی کتاب

مُعجمُ مَقَاءِ بَلِيسِ اللِّغَةِ ہے یہ کتاب چھ جلدوں میں ہے اور اس
کتاب کا موضوع یہ ہے کہ وہ ایک دادہ لیتے ہیں اور اس کے اصلی
معنی بتاتے ہیں پھر اس کے مجازی استعمال بتاتے ہیں، نیز اشتقاق
کبیر کے اعتبار سے مادوں کے درمیان معانی کا فرق بھی بتلاتے ہیں
ابن فارس نے اپنی اسی کتاب میں خَتَمَ يَخْتِمُ کے معنی لکھے ہیں
بلوغ آخر الشیئی یعنی کسی چیز کا اخیر تک پہنچ جانا عرب کہتے ہیں
خَتَمَتُ الْعَمَلَ (میں نے کام پورا کر دیا)، خَتَمَ الْقَارِي السُّورَةَ
(قاری صاحب نے سورت پوری کر لی)، یہ ہیں اس لفظ کے اصل معنی
پھر علماء نے فرمایا کہ مہر لگانے کو ختم اس بنتے کہا جاتا ہے کہ جب
کسی تحریر کو مکمل کر لیا جاتا ہے تو اخیر میں مہر لگانی جاتی ہے

اس لئے مہر کو بھی ختم کہدیا جاتا ہے ابن فارس لکھتے ہیں فاماً
 الخَتْمُ وَهُوَ الظِّيْعُ عَلَى الشَّيْءِ فَذَلِكَ مِنَ الْبَابِ أَيْضًا، لَا نَطْبَعُ
 عَلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ بَلْوَغٍ أُخْرَى فِي الْأَحْرَازِ، وَالْخَاتَمُ
 مُشْتَقٌ مِنْهُ، لَا نَبْهَ بِهِ يُخْتَمُ (ص ۲۵۵: ۶)، تَرْجِمَةُ رَهْلَفَظِ خَتْمٍ، جُبْ كَ
 معنی ہیں کسی چیز پر مہر لگانا، تو یہ لفظ بھی اسی باب سے ہے۔
 کیونکہ کسی چیز پر مہر اس وقت لگتی ہے جب وہ چیز پوری ہو جائے
 اور سمیٹ لی جائے اور لفظ خاتم (اسم الله)، اسی ماڈہ سے بنایا گیا
 ہے کیونکہ اس کے ذریعہ مہر لگائی جاتی ہے۔۔۔۔۔ اس لغوی
 تشریح کے بعد دوسری بات شروع کرتا ہوں جو ذرا دقیق ہے
 اسے غور سے ساعت فرمائیں۔

پوری دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ پوری دنیا کا جائزہ
 یعنی کے بعد دو قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ذوات اور
 دوسری صفات، جیسے یہ کاغذ اور اس کی سفیدی، تو سفیدی و صفت ہے
 اور کاغذ کا وجود اس کی ذات ہے۔ ذوات کو آپ چھوڑ دیتے اور صفات
 کو لیجھتے دنیا میں جتنے اوصاف ہیں دو قسم کے ہیں ایک ہیں
 بالذات اور ایک بالعرض مثلاً صبح سورج طلوع ہوتا ہے، اس
 کی روشنی دار جدید کی دیواروں پر پڑتی ہے اور یہ روشنی درستگاہوں

میں بھی آتی ہے تبا یئے! یہ درسگاہ کی روشنی ذاتی ہے؛ نہیں ذاتی نہیں ہے ورنہ بلب جلانے کی کیا ضرورت تھی بلکہ یہ روشنی بالعرض ہے اور جو روشنی دیواروں پر پڑ رہی ہے وہ ذاتی ہے اور جو درسگاہ میں آرہی ہے وہ باہر کی روشنی کا عکس ہے چنانچہ سامنے کے تین دروازے بند کر دیجئے ابھی اندر ہیرا ہو جائے گا معلوم ہو ایہ روشنی بالعرض ہے۔

اب جو روشنی دیواروں پر پڑ رہی ہے اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی ذاتی نہیں ہے کیونکہ اگر بالذات ہوتی تو ہمیشہ قائم رہی بلکہ وہ بھی بالعرض ہے کیونکہ وہ روشنی سورج سے آرہی ہے۔

قاعدہ سمجھئے کہ جتنی صفات بالعرض ہوتی ہیں وہ کسی موصوف بالذات پر بجا کر ملتی ہی ہوتی ہیں اور موصوف بالذات سے تجاوز نہیں کر سکتیں جیسے درودیوار کی روشنی سورج کا فیض ہے مگر سورج کی روشنی اس کی ذاتی ہے۔

اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہو رج کی روشنی ذاتی نہیں ہے، کہیں اور سے آئی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئی ہے؟ پھر اس منبع نور کے بارے میں سوال ہو گا کہ اس میں کہاں سے روشنی آئی ہے الغرض یہ شیطان کی آنت کہیں پہنچ کر کے گی یا نہیں؟ اگر نہیں

رکتی تو تسلسل لازم آئے گا جو محال ہے، اور اگر رکتی ہے تو سورج کے بجائے ہم اسی کو موصوف بالذات نہیں گے۔

اب دیکھئے! کہ نبوت کسی ذات کا نام نہیں ہے بلکہ نبوت و صفت کا نام ہے اور بنی ذات مع الوصف کا نام ہے یعنی بنی وہ شخصیت ہے جو وصف نبوت کے ساتھ متصف ہے۔ اور نبوت صرف صفت کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء ہیں اور جو رسول ہیں وہ بھی بنی ہیں کیونکہ رسول، بنی سے اخص ہے اور بنی اعم ہے اور اعم اخص کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتا ہے جیسے انسان، جیوان سے اخص ہے اور جیوان اعم ہے اس لئے جو بھی انسان ہو گا وہ جیوان ضرور ہو گا اسی طرح جو بھی رسول ہو گا وہ بھی ضرور ہو گا۔

اب غور کیجئے کہ یہ سارے انبیاء کرام جو تعداد میں ایک لاکھ سے زیادہ ہیں یہ سب کے سب و صفت نبوت کے ساتھ بالذات متصف ہیں

لہ صرف انساؤں کے اعتبار بنی اور رسول میں عام و خاص مطلق کی نسبت ہے، بنی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ اور ملائکہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر من وجہ کی نسبت ہو گی اور تین ماڈے اس طرح نکلیں گے موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور بنی بھی (ماڈہ اجاہ) اور انبیاء بنی اسرائیل صرف بنی ہیں (ماڈہ افتراءق) اور حضرت جبریل عصر ف رسول ہیں۔

یا بالعرض ؟ یا بعض بالذات اور بعض بالعرض متصف ہیں ؟ یہ احتمال کہ سب کے سب متصف بالذات ہیں سمجھو میں نہیں آتا، اسی طرح یہ احتمال کہ سب بالعرض متصف ہیں یہ بھی سمجھو میں نہیں آتا لامحہ لے ماننا پڑے ٹھاکرے ان میں سے کوئی ایک بنی صفت بُوت کے ساتھ بالذات متصف ہے اور باقی سارے انبیاء رَکِرام کی بُوت اس موصوف بالذات کی بُوت کا یہ تو اور فیض ہے خَاتَمُ النَّبِيِّينَ میں یہی مخصوص بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی بُوت تو بالذات ہے اور دیگر انبیاء رَکِرام کی بُوت آپ کی بُوت کا فیض ہے جہاں جہاں آپ کا فیض پہنچا وہ وصف بُوت کے ساتھ متصف ہو گئے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی بُوت کا منبع ہیں۔ آپ کی بُوت کے طفیل میں سارے نبیوں کی --- بُوت وجود میں آئی ہے۔ لہذا تمام انبیاء کی بُوت چاہے وہ رسول ہوں یا بنی ہوں سب کی بُوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بُوت کا فیض ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بُوت بالذات ہے اور دیگر موصوفین بالعرض کا سلسلہ آپ کی ذات پر منتهی ہوتا ہے اس لئے آپ خاتم النبیین ہیں۔

اس طفیل سمع خراشی کا مقصد یہ ہے کہ قادیانی امت حضرت

اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانو توی قدس سترہ کی عبارتوں میں کتر بیونت کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے اس لئے ہمارے طلبہ کو پہلے حضرت نانو توی کی بات سمجھنی چاہئے۔

حضرت نانو توی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام نبیوں کی بنوت آپ کی بنوت کا فیض ہے یہی آپ کا سب سے بڑا کمال ہے اور عام لوگ جو خاتم النبیین کا مطلب صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ آپ سارے نبیوں کے اخیریں تشریف نہ لائے ہیں لیس اتنا تو سمجھتے ہیں وہ اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ صرف آگے پیچے ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت نے یہ بات "تحذیر الاناس" میں لکھی ہے، کتاب کے آغاز میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ:

"عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء پر سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر بیی ہیں، مگر اہل فہم پر روش ہو گا کہ تقدم یا تأخیر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں" (ص۲)

اس کے بعد ص۲ پر تحریر فرماتے ہیں کہ

"اطلاق خاتم اس بات کو مقتضی ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ بنوت آپ پر ختم ہوتا ہے جیسے انبیاء اگذشتہ کا وصف بنوت

میں حسب تقریر مسٹر اس لفظ سے آپ کی طرف محتاج
ہونا ثابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف
محتاج نہ ہونا اس میں ان بیانات گذشتہ ہوں یا کوئی اور اسی طرح
اگر فرض کیجئے آپ کے زمانہ میں بھی اس زمین میں یا کسی اور
زمین میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصف
بنوت میں آپ ہی کا محتاج ہو گا اور اس کا سلسلہ بنوت
بہر طور آپ پر ختم ہو گا۔ اور کیوں نہ ہو عمل کا سلسلہ علم پر
ختم ہوتا ہے جب علم ممکن للبشر ہی ختم ہو لیا تو پھر سلسلہ
علم و عمل کیا چلے۔ غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیا جائے
جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا ان بیانات گذشتہ ہی کی نسبت
خاص نہ ہو گا۔ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور
کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔“

ان عبارتوں کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھو لیجئے کہ تحذیر الناس کا
موضوع کیا ہے؟ تحذیر الناس کا موضوع یہ ہے کہ قرآن کریم میں
سورہ طلاق میں ارشاد ہے۔ **أَدْلِهُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سات آسماؤں کی طرح
شازمیں پیدا فرمائی ہیں اس ضمن میں حضرت ابن عباسؓ کا ایک اثر

مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا فرمائے اور سات زمینیں پیدا فرمائیں اور ہر زمین میں مخلوق ہے اور آدم ہیں تمہارے آدم کی طرح، نوح ہیں تمہارے نوح کی طرح، ابراہیم ہیں تمہارے ابراہیم کی طرح، اور عیسیٰ ہیں تمہارے عیسیٰ کی طرح اور محمد ہیں تمہارے محمد کی طرح۔ یہ روایت ہے اس روایت کا ایک زمانہ میں لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر تھے زمینوں میں تھے محمد اور ہیں تو بوجہ وہ خاتم النبیین بھی ہوں گے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خاتم النبیین ہیں لہذا یہ روایت غلط ہے۔ یہ سوال اس زمانہ میں پیدا ہوا اور یہ سوال حضرت ناؤ تویؐ کے پاس آیا حضرت نے اس سوال کا جواب لکھا جس کا نام ہے۔ فتوی تحدیر الناس من انکار اثر ابن عباس رضی اللہ عنہ کتاب کا پورا نام یہ ہے اس کتاب میں حضرت ناؤ توی قدس سرہ نے نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت کیا کہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں کوئی

لے دا خر ج ابن جریر، وابن ابی حاتم، والحاکم وصححه والبیهقی فی الشعب
و فی الاسماء و الصفات عن ابی الصحنی عن ابن عباس فی قوله: "وَمِنْ الارْضِ
مثْلُهِنَّ" قال: سبع ارضیین، فی کل ارض بُنیَ کتبیکم، وآدم کادم، ونوح کنوچ،
وابراہیم کا براہیم، وعیسیٰ کعیسیٰ۔ قال البیهقی: اسنادہ صحیح، ولکن شاذ،
لَا أَعْلَمُ لَأَبِي الصحنِ عَلَيْهِ مُتَابِعًا۔ (الدرالنشور ج: ۲۳۸)

بنی ہو تو وہ بھی آپ کی بتوت کا فیض ہو گا۔ اور اس زمین کے علاوہ دوسری زمینوں میں اگر چھپے محمد ہیں تو وہ بھی آپ کی بتوت کا فیض ہیں یعنی حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق اگر چھپے زمینوں میں چھپے محمد ہیں تو وہ بھی وصف بتوت کے ساتھ موصوف بالعرض ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصف بتوت کے ساتھ موصوف بالذات ہیں تو اگر ساتھ زمینیں ہیں، اور ساتوں زمینوں میں محمد ہیں تو وہ بھی آپ کی بتوت کا فیض ہیں۔ جس طرح اس زمین پر جتنے انبیاء ہیں ان کی بتوت بھی حضور کی بتوت کا فیض ہے۔ نیزان زمینوں میں جو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، علیسیٰ وغیرہم ہیں ان سب کی بتوت مستغفیض ہے اس زمین کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوت سے۔

قادیانیوں نے حضرت رحمہ اللہ کی مذکورہ بالاعبار تو میں کتر بیونت کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی مذموم سعی کی ہے کہ دیکھو! حضور کے بعد بھی بنی ہو سکتا ہے مولانا نافتوی اجرائے بتوت کے قائل ہیں۔ حالانکہ حضرت نے تحذیر الناس ہی میں اس مسئلہ کو صاف کر دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بتوت کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ

”اگر اطلاق اور عموم ہے تو ثبوت خاتیت زمانی ظاہر“

وَرَبِّ تَسْلِيمٍ لِزَوْمٍ خاتَمِيْتِ زَمَانِيْ بِدَلَالَتِ التَّرَازِمِيْ ضَرُورٌ هُوَ
اَدَهْرٌ تَصْرِيْحَاتِ نَبُوْيِّيْ مُشَلِّ اَنْتَ مَنْيِّ بِمَنْزُلَةِ هَارُونَ مَنْ
مُوسَىٰ، اَلَا اَنْهُ لَا بَنِي بَعْدِي اَوْ كَمَا قَالَ جَوْنَطَا هَرِ
بَطْرَمَذْ كُوْرَا سَلِيمَ لِفَظَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَمِعَ اَخْوَزَ هُوَ، اَسْ بَابَ
مِنْ كَافِيٍ - كَيْوَنْكَهْ يَمْضِمُونَ دَرْجَةَ تَوَاتِرٍ كَوْپَسْنَجَيْ گَيَا هُوَ، پَھْرَاسَ
پِرَاجِمَاعَ بَعْدِيْ مُنْعَقَدَ ہُوَ گَيَا، گَوَالْفَاظَ مَذْ كُورِبَنْدَ مَتَوَاتِرَ مُنْقُولَ
نَهْ ہُوں، سَوِيْهْ عَدْمَ تَوَاتِرِ الْفَاظَ بَادْجُودَ تَوَاتِرَ مَعْنَوِيِّ یَہَاں اِیْسَا
ہُوَ گَيَا جِیْسا تَوَاتِرِ اَعْدَادِ رَكَعَاتِ فَرَأَضَ دَوْتَرَوْغِیرَهْ، بَادْجُویکَهْ
الْفَاظَ اَحَادِیثَ تَعْدَادِ رَكَعَاتِ مَتَوَاتِرَ نَهِیں جِیْسا کَه اَسْ كَامْنَکَرَ
کَافِرَ ہُے اِیْسَا، هُوَ اَسْ كَامْنَکَر بَعْدِيْ کَافِرَ ہُوَ گَيَا، (فصل ۱۱)

اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ ختم نبوت کی تین قسمیں ہیں اور تینوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں یعنی آپ تینوں اعتباروں سے خاتم النبییں ہیں۔ ختم نبوت کی تین قسمیں ہیں ختم نبوت ربی، ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت مکانی۔

ختم نبوت ربی ختم نبوت ربی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب

یہ ہے کہ آپ کی نبوت بالذات ہے اور دیگر انبیاء کرام از آدم نا عیسیٰ علیہم السلام کی نبوت اور دوسری چھٹی زمینوں کے نبیوں کی نبوت بالعرض ہے

ہے اور حضور کی نبوت کا فیض ہے یعنی آپ پر نبوت کے تمام مرتبے ختم ہو گئے ہیں یہ ختم نبوت ربی کا مطلب ہے۔

ختم نبوت مکانی اور ختم نبوت مکانی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ناؤ تویؒ نے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے کہ سیات زمینوں میں رب سے افضل ہماری یہ زمین ہے اس لئے حقیقی خاتم النبیین بھی اسی اعلیٰ اور افضل زمین میں تشریف لائے ہیں پس مکانِ زمینوں کے اعتبار سے بھی اس زمین کے خاتم حقیقی خاتم النبیین ہوتے یہ ہے ختم نبوت مکانی کا مطلب۔

ختم نبوت زمانی ایسی قسم ختم نبوت زمانی ہے۔ ختم نبوت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہستی حقیقی خاتم النبیین ہے اس کا دور اور زمانہ دوسرے بالعرض متصدیفین کے بعد ہے اور سب انبیاء کے آخر میں وہ تشریف لائے ہیں ان کے بعد کوئی نیا بنی نہیں آئے گا۔ یہ ہے ختم نبوت زمانی کا مطلب۔

ختم نبوت ربی اور زمانی میں تلازم حضرت ناؤ تویؒ قدس برہ نے یہ مسئلہ بھی صاف کر دیا ہے کہ ختم نبوت ربی کے لئے ختم نبوت زمانی لازم ہے، کیونکہ جو ہستی وصف نبوت کے ساتھ بالذات متصف ہے اگر وہ تمام نبیوں سے پہلے آئے، یا ان کے درمیان میں آئے

تو محدود رلازم آئے گا اور وہ خرابی یہ ہے کہ خاتم النبیین کے بعد جو بنی آسمیں گے، اگر ان کے پاس دھی نہ آئے اور وہ نئی شریعت نہ دئے جائیں تو وہ بنی نہیں ہوں گے، اور اگر ان انبیاء متنا خرین کے پاس دھی تو آئے مگر اس میں علوم جدیدہ نہ ہوں تو وہ دھی تحصیل حاصل ہوگی، اور اگر ان کے پاس دھی آئے اور نئی شریعت دیے جائیں تو موصوف بالعرض کی شریعت سے موصوف بالذات کی شریعت کا منسون ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ناسخ کے لئے منسون سے افضل یا کم از کم مساوی ہونا ضروری ہے، مفضول افضل کے لئے ناسخ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ارشاد ہے۔ مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسْخَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ (ہم کسی آیت کا حکم جو موقف کر دیتے ہیں، یا اس آیت (ہی) کو (ذہنوں سے) فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل لے آتے ہیں) اس آیت کے دو اور دو چار کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ ناسخ ہمیشہ منسون سے بہتر یا منسون کے مانند ہوتا ہے پس اگر خاتم النبیین شروع میں آجائیں یاد رمیان میں آجائیں تو بعد میں آنے والے نبیوں کی شریعت ان کی شریعت کو منسون کر دے گی اور یہ بات ممکن نہیں ہے اسی لئے حضرتؐ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے لئے سب سے اخیر میں آنا ضروری ہے۔

اور ختم بتوت ربی کے لئے متاخر زمانی لازم ہے۔ حضرت قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ :

"بِالْجَمْلَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصْفٌ بِنَوْتٍ مِّنْ موصوف بالذات
ہیں اوسوا آپ کے اور انبیا ر موصوف بالعرض اس صورت میں اگر رسول اللَّهِ
صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْلَوْلَ یا او سط میں رکھتے تو انبیا ر متاخر کا دین اگر
مخالف دین محمدی ہوتا تو اعلیٰ کا ادنیٰ سے منسون ہونا لازم آتا جائے
خود فرماتے ہیں مَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ وَّنُسْهَأَ نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ اور کیوں نہ ہو، یوں نہ ہو تو اعطاہ دین محمد
رحمت نہ رہے، آثار غضب میں سے ہو جائے، ہاں اگر یہ بات
متصور ہوتی کہ اعلیٰ درجہ کے علماء کے علوم ادنیٰ درجہ کے علماء کے
علوم سے کتر اور ادؤن ہوتے ہیں تو مضائقہ بھی نہ تھا، پرسب
جانتے ہیں کہ کسی عالم کا عالی مرتب ہونا علوی مرتب علوم پر موقوف
ہے، یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اور انبیا ر متاخر کا دین اگر مخالف نہ
ہوتا تو یہ بات تو ضرور ہے کہ انبیا ر متاخر پر دحی آتی اور افاضہ علوم کیا
جاتا اور نہ بتوت کے پھر کیا معنی؟ سواس صورت میں اگر وہی علوم
محمدی ہوتے تو بعد وعدہ حکم إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ إِنَّا لَهُ
لَحْفِظُونَ ۝ کے جو بہ نسبت اس کتاب کے جس کو قرآن کہتے، اور

بشهادت آیہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ
 جامع العلوم ہے، کیا ضرورت تھی، اور اگر علوم انیصار متاخر
 علوم محمدی کے علاوہ ہوتے تو اس کتاب کا تبیانًا لکُلِّ
 شَيْئٍ ہونا غلط ہو جاتا۔

باجملہ جیسے ایسے بنی جامع العلوم کے لئے ایسی ہی کتاب
 جامع چاہئے تھی تاکہ علوم رتب بہوت جو لا جرم علوم رتب علی
 ہے، چنانچہ معروض ہو چکا میسر آتے، ورنہ یہ علوم رتب بہوت
 بے شک ایک قول دروغ اور حکایت غلط ہوتی ایسے ہی ختم
 بہوت۔

—معنی معروض کو تاخزمائی لازم ہے۔ (ص ۸/۹)

پس ثابت ہوا کہ قادریانی امت کا حضرت رحمہ اللہ کی عبارت سے
 لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ مولانا نافتویؒ اجرائے بہوت کے قائل ہیں
 یہ محض دھوکہ ہے، حضرتؒ کی عبارت بے غبار ہے۔ لایا تیہ
 الباطل من یہ میں یہ دلامن خلفہ کسی طرح بھی حضرت کی عبارت سے
 باطل کا ایہام پیدا نہیں ہوتا۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔
 حدیث لوکانؓ بنی بعدریؓ سے استدلال کا جواب | قادریانی امت

مسلمانوں کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کرتی ہے اور بزعم خود اسے

اجرائے بنوت پر استدلال کرتی ہے اس لئے اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ وہ حدیث یہ ہے لوکاں نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر (بالفرض) میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب بھی ہوتے۔ یہ حدیث حضرت عمر رضیٰ کے فضائل میں وارد ہوئی ہے، گویا اگر بنوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر رضیٰ کو بنوت سے سرفراز کیا جاتا۔ یعنی عمر رضیٰ کی صلاحیتیں اس درجہ کی ہیں کہ ان کو بنوت سے سرفراز کیا جائے مگر چونکہ بنوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اس لئے یہ چیزاب ممکن نہیں ہے۔

ایک اور حدیث | قادیانی امت اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ وہ حدیث ابن ماجہ کی ہے کہ لَوْعَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ صِدْيقًا نَبِيًّا سَلَّمَ یعنی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے۔ اس حدیث کے بارے میں ذرا تفصیل سے سمجھو یجئے۔

له رواه الترمذی في مناقب عمر قال الشارح: وآخر جهاد احمد والحاكم وابن حبان ،

وآخر جهاد الطبراني في الاوسط من حدیث ابی سعید۔ (تحفۃ الاحوزی ص: ۱۵۳)

له ابن ماجة كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلوٰة على ابن رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم ذکر وفاتہ، (ص: ۲۸۳ مصری)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام ابراہیم تھا حضرت ماریہ قبطیہؓ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور شرہ اٹھارہ ماہ کے ہو کر انتقال فرمائے تھے۔ ان کے بارے میں دو حدیث ہیں ایک مرفوع جو صحیح نہیں ہے اور ایک موقوف جو صحیح ہے مرفوع حدیث یہ ہے کہ لوغاش ابراہیم لكان صدیقانبیا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے مگر صحیح نہیں ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ابراہیم بن عثمان ہے اس کی کتبیت ابو شیبہ ہے۔ واسطہ کے قاضی تھے مسلم کے مقدمہ میں اُن کا ذکر آیا ہے یہ بڑے آدمی تھے ابن ابو شیبہ جن کی مصنف ابن ابو شیبہ ہے ان کے دادا ہیں مگر ضعیف ہیں امام نسائی نے ان کو متروک الحدیث قرار دیا ہے، امام احمد نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے۔ مقدمہ مسلم میں ہے کہ امام شعبہ سے دریافت کیا گیا کہ ان سے روایت ملت لو، وہ بڑے آدمی ہیں اور میراپے خط پڑھ کر پھاڑ دو کیونکہ وہ قاضی تھے اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ شعبہ نے ان کے بارے میں جرح کی ہے تو امام شعبہ کے لئے پر شانی کھڑی ہو سکتی تھی، صالح جزء نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ضعیف، لا یکتب حدیثہ روی عن الحکم احادیث مناکیر (ضعیف راوی ہے، اس کی حدیث ہیں)

نہ لی جائیں، وہ حکمُ بن عتبہ سے منکر روایتیں کرتا ہے) اور لوعاش ابراهیم والی روایت انھوں نے حکم بن عتبہ سے روایت کی ہے اس لئے یہ روایت نہایت ضعیف ہے، موضوع تو نہیں کہتا لیکن بہت کمزور درجہ کی روایت ہے اس لئے اس کے جواب کی توضیحات نہیں ہے البته بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کتاب الادب میں ایک باب ہے باب من سمی باسماء الانبیاء اس باب میں امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے کہ ایک صحابی جنکا نام عبد اللہ بن ابی اوفی ہے ان دریافت کیا گیا کہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراهیم کے بارے میں بتلا یئے؟ عبد اللہ نے جواب دیا کہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ولو قضی ان یکون بعد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بنی لعاش ابne ولکن لا بنی بعدہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ اور ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن یہ ایک صحابی کا قول ہے کہ حضور کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا مقدر ہوتا تو حضرت ابراهیم زندہ رہتے تاکہ آپ کے بعد انھیں نبوت سے سرفراز کیا جاتا۔ لیکن چونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اسلئے ان کو زندگی نہیں خوشنی گئی۔ یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح لوکان بنی بعدی لکان عمر بن الخطاب بھی صحیح حدیث ہے ان حدیثوں سے قادریانی اس طرح استدلال کرتے ہیں

کہ ان حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جاری رہنا فرض کر کے کلام کیا گیا ہے اور جو چیز فرض کی جاتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ پس حضورؐ کے بعد نبوت کا امکان ثابت ہوا۔

جواب :- ان دونوں حدیثوں کا جواب آپ حضرات مجتصر المعانی میں پڑھ چکے ہیں جہاں حروف شرط کا بیان آیا ہے۔ یعنی ان، اذَا اور تو کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں جمہور کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ حرف او لامتناع الثانی لامتناع الاول کے لئے آتا ہے یعنی جزا نہیں پائی گئی اس لئے کہ شرط نہیں پائی گئی بس تو کا کام اتنا ہے جیسے لو جھٹنی لا گر متوف (اگر آپ میرے پاس آتے تو میں آپ کا اکرام کرتا، یعنی میں نے آپ کا اکرام اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ تشریف نہیں لائے، اگر آپ تشریف لاتے تو اکرام کرتا، رہی یہ بات کہ تو کا مدخول ممکن ہو گایا ممتنع؟ تو اس پر تو کی کوئی دلالت نہیں ہوتی یہ بات دلائل خارجیہ اور قرآن سے طے کی جاتی ہے کہ تو کا مدخول ممکن ہے یا ممتنع کیونکہ تو کا مدخول ممکن اور محال دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن کی مثال : (۱) وَ لَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ (۲) اگر اہل کتاب ایمان لے آتے

تو ان کے لئے زیادہ اچھا ہوتا، (۲)، وَأَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ أَمْنُوا وَ
 اتَّقُوا الْفَتْجَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (۳) اور اگر ان
 بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے تو ہم ان پر
 آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، ان آیتوں میں لوں کا مدخل
 ایمان ہے جو ممکن ہے۔ (۴)، وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْدِنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدْنَاهَا
 وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ وَلَهُ الْآية۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم
 چاہتے تو سب کو ہدایت دیدیتے لیکن ہدایت یاب نہیں ہوئے،
 کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اس آیت میں لوں کا مدخل
 مشیت باری تعالیٰ ہے جو ممکن ہے۔ — اور لوں کا مدخل
 امر ممتنع بھی ہوتا ہے، جیسے سورہ زمر میں ارشاد باری ہے لَوْ أَرَادَ
 اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَا صُطْفَنِي إِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، سُبْحَنَهُ
 هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ (اگر بالفرض، اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد
 بنانے کا ارادہ کرتا تو ضرور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منصب
 فرماتا، وہ پاک ہے، وہ ایسا اللہ ہے جو واحد ہے زبردست ہے)
 یعنی اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کیلئے ممتنع ہے۔ — الفرض لوں کا مدخل محال بھی
 ہو سکتا ہے۔ اور ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی فرض محال چیز بھی کی جا سکتی ہے۔

مفروض کیلئے ممکن ہونا شرط نہیں ہے۔

اب سمجھنا چاہئے کہ ارشادِ نبویؐ کو کان بنیٰ بعْدِیٰ لکان عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ بنیٰ نہیں ہوں گے کیونکہ حضورؐ کے بعد بتوت کا سلسہ جاری نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت عبد اللہ بن ابی اویؑ کے ارشاد کا کہ اگر حضورؐ کے بعد بتوت مقدر ہوتی تو حضورؐ کے صاحبزادے ابراہیمؓ کو زندہ رکھا جاتا، مگر جونکہ حضورؐ پر بتوت کا سلسہ پورا ہو گیا ہے اس لئے ان کو زندگی نہیں دی گئی۔ الغرض یہ دو ذیں حدیثیں امکان بتوت پر دلالت نہیں کرتیں، بلکہ نفی پر دلالت کرتی ہیں یعنی حضرت عمرؓ کی اور صاحبزادے حضرت ابراہیمؓ کی بتوت کی نفی کی گئی ہے۔ بوجہ انتظام بتوت، یہی کوؐ کے معنی میں کیونکہ کوآتا ہے لامتناع الثانی لامتناع الاول کے لئے۔

حضرورؐ کے بعد بتوت محال ہے | اب رہایہ سوال کہ حضورؐ کے بعد بتوت محال ہے یا ممکن؟ تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بتوت واقع فی الخارج تو ہے نہیں۔ ذہن میں اور عقلی طور پر کیا ہے اس سے بحث نہیں۔ اگر کوؐ سے امکان پیدا ہوتا ہے تو امکان ذہنی اور فرضی پیدا ہوتا ہے۔ امکان واقعی اور حقیقی پیدا

نہیں ہوتا۔ اور صرف امکان فرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔

سوال :- اب رہایہ سوال کہ جب لوگ کامدخل ممکن اور ممتنع دونوں ہو سکتے ہیں تو حدیث میں لوگ کامدخل امر ممتنع ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟

جواب :- تو اس کا مختصر اجواب یہ ہے کہ اس بات کی سب سے پہلی اور قطعی دلیل تو آیت کریمہ و خاتم النبیین ہے جس کی تفسیر پہلے عرض کی جا چکی ہے۔ اس آیت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان واقعی اور خارجی نہیں ہے، عقلی اور فرضی ہو تو ہوا کرے اس سے کوئی محذور لازم نہیں آتا۔

علاوہ ازیں اس سلسلہ میں متعدد احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جن کو مختصر اعرض کرتا ہوں۔

پہلی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور دیکر انبیاء رکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مثال ایک محل جیسی ہے، جسے نہایت شاندار تعمیر کیا گیا ہو، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو۔ جب لوگوں نے اس محل کا نظارہ کیا تو اس کی شاندار بناؤٹ سے چرت زدہ رہ گئے، مگر جب لوگ اس جگہ پہنچ چہاں

ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں
بھی اینٹ ہوتی تاکہ محل مکمل ہو جاتا حضور نے ارشاد فرمایا کہ:
فَكُنْتُ أَنَا سَدِّدُتُ مَوْضِعَ تو میں ہوں وہ شخص جس نے خالی
اللَّبِنَةَ حُتِمَ بِالْبُنْيَانِ، اینٹ کی جگہ بھر دی ہے، اور پایہ
تکمیل کو پہنچ گیا ہے میرے ذریعہ
 محل، اور پورا ہو گیا ہے میرے ذریعہ
رسولوں کا سلسلہ۔

ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ
فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا حَاتِمُ تو میں ہوں وہ آخری اینٹ، اور میں
النَّبِيِّينَ۔ (متفق علیہ) ہوں ختم کرنے والا نبیوں کا۔

دوسری حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ،
مجھے چھپتے باتوں میں دوسرے نبیاں پر برتری حاصل ہے، مجھے جامع
ارشادات دئے گئے ہیں، اور دبدبہ کے ذریعہ میری مدد
کی گئی ہے، اور متین کرنے لئے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں۔ اور متین کرنے
رُوئے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے،
اور میں تمام مخلوقات کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، اور متین کرنے کے ذریعے
نبوت ختم کی گئی ہے۔ (رواه مسلم)

میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت علیؓ نے افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاری ہے میں! اور جہاد کی فضیلت سے مجھے محروم کر رہے ہیں! اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں بلکہ اپنا نائب بناؤ کر جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب بنائے تھے، لہذا تم مدینہ میں رہو اور قوم کی نگہبانی کرو، مگر اس کے بعد معاً حضور کو ایک خیال آیا اس لئے فرمایا کہ الا اتہ لا نبی بعدی مگر ایک بات یاد رکھنا میسر بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ارشاد آپ نے اس لئے فرمایا کہ کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ جیسے ہارون علیہ السلام نبی تھے، حضرت علیؓ بھی نبی ہیں۔

یہ چار حدیثیں ہیں۔ ان کو خوب ذہن نشین کرو بہت ضروری ہیں۔ قرآن کی آیت اور احادیث شریفہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قصر بنت کی تکمیل کر دی گئی ہے آپ کے بعد کسی نبی کی اب گنجائش نہیں ہے کسی طرح کا اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ امرت کا اجماعی عقیدہ ہے پوری امرت کا اس پراتفاق ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا

پیغمبری حدیث | شفاعت کبریٰ والی طویل حدیث میں ہے کہ جب تمام لوگ میداں محشر میں پریشان ہوں گے اور انبیاء سے شفاعت کی درخواست کریں گے تو سب معذرت کر دیں گے، آخر میں تمام اولین و آخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیک زبان عرض کریں گے کہ یا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ۔ (اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادیئے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لئے سفارش کیجئے)

چوتھی حدیث | ایک حدیث شریف اور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ أَنْتَ مِنْ بَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُؤْسِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي بَعْدِي (متفق علیہ) یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت پارون صلی اللہ علیہ وسلم توک کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت علیؑ کو مَدِينَةٌ مُنْوَرَةٌ

بنی نہیں آ سکتا خواہ وہ غیر تشریعی ہو، ظلی ہو، یا بُروزی ہو۔ ہاں
البته جھوٹا بنی ہو سکتا ہے جیسا کہ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے اس کی
پیشمنگوئی فرمائی ہے۔ میں نے تقریر کے شروع میں آیت کریمہ کے
بعد جو حدیث شریف پڑھی تھی وہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ثوبان
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ :

سَيِّكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ آئندہ میری امت میں تیس سو جھوٹے
شَلَاثُونَ، كُلُّهُمُ يَرْعَمُ بُی پیدا ہوں گے جو سب بُوت کا
أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا حَاتِمٌ دعوے کریں گے، حالانکہ میں خاتم
النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيٌّ بَعْدِيَ لَهُ النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی
نہیں ہے۔

یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور حسن صَحِیحُ یعنی
اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے۔ اس لئے غلام احمد قادریانی خواہ کسی قسم کی
بُوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔

مسيح موعودؑ اب مسئلہ رہ جاتا ہے مسیح موعود کا یعنی حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی آمد کا — وقت کافی گذر چکا ہے اس لئے

لئے ابو داؤد شریف کتاب الفتن، باب اول حدیث ۲۲۵۲ (مصری نسخہ) اس مضمون
کی متعدد احادیث بخاری، مسلم میں بھی ہیں ۱۲

مختصر اعرض کر دوں گا — مسیح موعود کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ آپ سمجھی حضرات کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے پہلے حضرت علیسیٰ علیہ الْتَّلَامُ بْنِ اسْرَائِیْلَ کے آخری پیغمبر ہوئے ہیں آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور آسمان پر زندہ ہیں اور آخر زمانہ میں قیامت سے پہلے آپ کو زمین پر آتا راجائیں گا جب دجال کا فتنہ برپا ہو گا۔ یہ ہے اسلامی عقیدہ اور قرآن و حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں اب قادیانی کہتا ہے کہ علیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے وہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، ان کی زمین میں ہی کسی جگہ قبر ہے اور قرآن و حدیث میں قیامت کے قریب جس مسیح کی آمد کا ذکر ہے وہ ایک مستقل شخصیت ہے وہ علیسیٰ علیہ الْتَّلَامُ نہیں ہیں، پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہوں اور قرآن و حدیث میں مسیح موعود کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں اُسے اپنے اوپر منطبق کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت علیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب دُنیا میں تشریف لا یس گے تو ان کے جسم مبارک پر دُو چادریں ہو گی۔

لَهُ عَلَيْهِ ثُوبَانٌ مُّمَصَّرٌ أَنَّ، وَفِي رَوَايَةٍ : بَيْنَ مُمَصَّرَيْنِ أَيْ : فِيهِمَا صُفْرَةٌ

خفیفۃ۔ (التصیریح ص ۹۵ و ص ۱۲۳)

ایک نُنگی کی جگہ پر، اور دوسری کرتے کی جگہ پر۔۔۔
 اور دُنُوں چَادِریں ہلکی زرد رنگ کی ہوں گی۔ اس علامت
 کو قادریانی اپنے اوپر اس طرح منطبق کرتا ہے کہ میرے اندر دو بیماریاں
 ہیں ایک ہر وقت پیشیاب کے قطروں کا آنا، یہ تو نیچے کی زرد چادر ہے،
 اور دوسری بیماری مراق (یعنی مالینخولیا، مالینخولیا کیا ہے؟ پاگل پن
 کی ابتدائی حد، اس کے بعد انسان مکمل پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ
 دماغی خرابی ہے۔ قادریانی کہتا ہے کہ یہ میری دوسری چادر ہے۔
 یہ ایک نمونہ ہے قادریانی تاویلات کا۔ وہ اسی طرح حضرت

علیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو جو علامتیں وارد ہوئی ہیں ان کو
 اپنے اوپر منطبق کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں التصریح بہاؤ اتر فی نزول
 المیسح (تحقیق شیخ عبدالفتاح ابو غده) کے آخر میں حضرت مفتی محمد شفیع
 صاحب قدس سرہ مفتی اعظم پاکستان کام مرتب کیا ہوا ایک جدول ہے
 جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ میں روایات میں
 جو جو علامتیں وارد ہوئی ہیں سب یکجا کی گئی میں، بنیز یہ بھی بتایا گیا
 ہے کہ قادریانی ملعون میں یہ علامتیں کسی طرح بھی نہیں پائی جاتیں۔
 طلبہ عزیز کو اس جدول کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

اِنِّي مُتَوَفِّيْكَ كَامْطَلَبٍ :- مسیح موعود کے سلسہ میں قرآن کریم

میں ایک آیت ہے، قادیانی اُسے طالب علموں کے سامنے پیش کر کے ان کو چکر میں ڈالتے ہیں۔ اس لئے اسے خوب غور سے سمجھ لینا چاہئے میں اس کو سمجھا کر اپنی تقریر ختم کروں گا۔ وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ

ہے:- اَذْقَالَ اللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَا فِعْلَكَ إِلَيَّ دَمْطَهْرُكَ

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاءُكُلُّ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ

كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتِلِفُونَ (جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے عیسیٰ! پیش

میں تم کو پورا پورا وصول کرنے والا ہوں اور میں تم کو اپنی طرف اٹھائے

والا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں،

اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں

ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں، قیامت کے دن تک، پھر میری

طرف ہوگی تمہاری سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان (عملی)،

فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے)

اس آیت کا پہلا جز ہے اَذْقَالَ اللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ

اس کو پیش کر کے قادیانی لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دیدی ہے دیکھو قرآن کہتا ہے کہ

میں نے علیسی بن مریم کو وفات دیدی ہے چونکہ طلباء کے ذہن میں تُوفی اور متوفی کا عرف مفہوم ہوتا ہے اس لئے طلبہ چکر میں پڑ جاتے ہیں لہذا اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔

اس آیت کریمہ میں جو فقط متفق ہے اس کا ماذہ کیا ہے ؟ اور اس کے معنی کیا ہیں ؟ ابن فارس لکھتے ہیں کہ : (وَفِي الْوَادِ، وَالْفَاءُ، وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُ) : کلمہ تدُلٌ علی الکمال و اتمام یعنی وَفِي کے اصلی معنی ہیں کسی چیز کو پورا اور کامل کرنا انہوں نے مثال دی ہے کہ اسی ماذہ سے الوفاء ہے جس کے معنی ہیں : اتمام العهد، و الکمال الشَّرْطُ، یعنی عہد پورا کرنا اور شرط کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ اسی طرح أَدْفَيْتُكَ الشَّيْئَ اس وقت بولتے ہیں جب آپ کسی کا حق پورا پورا دیدیں اور تَوَفَّيْتُ الشَّيْئَ اور اسْتَوْفَيْتُ الشَّيْئَ اس وقت بولتے ہیں جب آپ اپنا حق پورا پورا وصول کر لیں اور اسی ماذہ سے میت کے حق میں تَوَفَّاهُ اللَّهُ بولتے ہیں یعنی اس تعلیٰ نے اُس کو پورا پورا وصول کر لیا۔

اب آئیے قرآن کریم میں، قرآن پاک میں یہ ماذہ متعدد جگہ

استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ یتوفی الْأَنفُسَ
 حِينَ مَوْتُهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِّكُ الَّتِي قُضِيَ
 عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍّ لَهُ (۱) اللہ
 تعالیٰ ہی وصول کرتے ہیں جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور
 ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی، ان کے سونے کے وقت،
 پھر ان جانوں کو توروک لیتے ہیں جن پر موت کا حکم فرمائچے ہیں،
 اور باقی جانوں کو ایک معین میعاد تک کیلئے رہا کر دیتے ہیں، یعنی
 اللہ تعالیٰ جانوں کو پُورا پُورا وصول کر لیتے ہیں اور یہ پُورا پُورا
 وصول کر لینا دو وقت ہوتا ہے ایک تو اس وقت جب موت کا
 وقت آتا ہے اور دوسرا اس وقت جب انسان سوتا ہے پورا
 پورا نفس وصول کر لیا جاتا ہے پھر جس کی موت مقدر ہوتی ہے۔
 اس کی جان توروک لی جاتی ہے اور دوسرے کی رہا کر دی جاتی
 ہے اور وہ خواب گرائے سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ
 بِالْأَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَوَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى
 أَجَلُهُ مُسَمٌّ لَهُ را اور وہ اللہ ایسے ہیں جو رات کے وقت تمہاری جانوں

کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اسے جانتے ہیں، پھر تم کو جگا دیتے ہیں تاکہ معین میعاد پوری کردی جائے) ان آیتوں میں توفی اپنے لغوی معنی میر، استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اِنِّی مُتَوَفِّیْکَ میں بھی لغوی معنی مراد ہیں یعنی اے عیسیٰ! میں آپ کو پورا پورا وصول کرنے والا ہوں اور اس کی دو شکلیں ہیں۔

ایک یہ کہ جسم یہاں رہے اور روح کو لے لیا جائے، جیسے موت کے وقت میں اور نیند کی حالت میں۔ اس کے لئے بھی توفی استعمال ہوتا ہے دوسری شکل جوزیادہ اکمل ہے وہ یہ ہے کہ روح جسم کے ساتھ لے لی جائے اِنِّی مُتَوَفِّیْکَ میں یہی معنی مراد ہیں یہاں توفی، موت کے معنی میں نہیں ہے اور اس کی دلیل اگلا جملہ ہے وَرَا فَعُكَ اَلَّا یعنی میں تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہاں توفی بمعنی موت نہیں ہے بلکہ پورا پورا لے لینے کا مطلب ہے روح کو جسم کے ساتھ اٹھا لینا۔

دوسری دلیل | اللہ پاک کا وہ ارشاد ہے جو سورۃ النصار

آیت ۱۵۸ دوسری میں آیا ہے کہ : وَمَا قَتَلُواْ يُقْبِلُنَا، بَلْ رَفَعَنَا

اللَّهُ إِلَيْهِ اور تقیینی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو استئنَقَ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔

پس مُتَوَفِّیْکَ کے معنی موت دینے والا نہیں ہیں بلکہ پورا پورا
وصول کرنے والا مراد ہے۔ یہ ایٰ مُتَوَفِّیْکَ کی ایک تفسیر ہے
اور صحیح ترین تفسیر ہی ہے۔

دوسری تفسیر | لیکن اگر کسی کو اصرار ہو کہ مُتَوَفِّیْ کے معنی
موت دینے والے کے ہیں تو دوسری تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے
یہ مروی ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور اصل مضمون اس طرح
ہے۔ اذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي رَأَيْتُكَ إِلَى وَمُتَوَفِّيْكَ الْخَ يَعْنِي
اے عیسیٰ! اس وقت تو میں تمہیں زندہ آسمان پر اٹھا رہا ہوں
لیکن بعد میں تمہیں بھی عام ان انوں کی طرح موت دوں گا۔ یہ
جملہ اس لئے ارشاد فرمایا گیا تاکہ لوگوں کے لئے حضرت عیسیٰؑ کا
آسمان پر زندہ اٹھایا جانا مگر اسی کا سبب نہ بنے، کہیں لوگ یہ
نہ سمجھنے لگیں کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام خدا تھے اسی لئے موت ان
پر طاری نہیں ہوئی۔ کیونکہ خدا کو موت نہیں آسکتی چنانچہ بہت سے
لوگ گراہ ہو گئے، جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کا بغیر باپ کے
پیدا ہونا مگر اسی کا سبب بن گیا و ترآن نے اس کی تردید کی اور
فرمایا ان مثلاً عیسیٰؑ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثْلٍ أَدَمَ يَعْنِي اگر حضرت عیسیٰؑ
بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ادم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا

ہوئے ہیں، بلکہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اس کے باوجود وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیونکر خدا کے بیٹے ہو گئے؟! اسی طرح زندہ اٹھا لئے جانے کی وجہ سے بھی مگر ابھی پھیل سکتی تھی، اس نے ارشاد ہوا اپنی رَافِعُكَ إِلَيْ مُتَوَفِّيْكَ یعنی ابھی تو میں تم کو اٹھارا ہوں، لیکن بعد میں تمہیں بھی موت آئے گی، کب آئے گی؟ آخر زمانہ میں جب فتنہ دجال کو ختم کرنے کیلئے نازل ہوں گے اس کے بعد ایک مدت تک دنیا میں زندہ رہیں گے، پھر انھیں بھی موت آئے گی تو حقيقة مُتَوَفِّيْكَ موخر ہے اور رَافِعُكَ إِلَيْ مَقْدِمَ ہے اور ذکر میں مُتَوَفِّيْكَ مقدم ہے اور رَافِعُكَ إِلَيْ موخر ہے۔ اور ایسا قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ واقعۃ جو موخر ہے اُسے ذکر میں مقدم کر دیا گیا ہے اور حقيقة میں جو مقدم ہے اُسے ذکر میں موخر کر دیا گیا ہے اور یہ میراث کی آیتیں ہیں جن میں وصیت کو مقدم بیان کیا گیا ہے اور دین کو موخر ذکر کیا گیا ہے حالانکہ دین مقدم ہے وصیت سے بہر حال إِلَيْ مُتَوَفِّيْكَ سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیسیٰ کو وفات دیدی ہے۔ ان کی بات لغو ہے اور خود

لہ دیکھئے سورہ النصار دوسرے کو ع۔

قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ پاک کا پاک ارشاد ہے وَمَا قاتلُوا
وَمَا أصْبَلُوا وَلِكُنْ شُبَّهَ لَهُمْ لَهُ (حالانکہ یہود نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام
کو قتل کیا اور نہ ان کو سوی پر چڑھایا بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا) پس
معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب جو مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے
وہ وہی ہوں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو چکے میں
اور جواب نبی اسرائیل کے خاتم ہیں لہذا مسیح کوئی نئی شخصیت نہیں
میں جب یہ بات صاف ہو گئی تو قادیانی کا بنا بنا یا محل ڈھیر ہو گیا۔

ایک شبہ کا جواب

یہاں قادیانی ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ چلو مان لو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت
میں دُنیا میں تشریف لائیں گے، مگر یہ تو تباہ کہ جب وہ آئیں گے
تو اپنی نبوت پر برقرار رہیں گے یا ان کی نبوت ختم ہو جائے گی؟ اگر
یہ کہو کہ وہ اپنی نبوت پر برقرار رہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین
کہاں رہے؟ آپ کا دین قیامت تک کیلئے کہاں رہا؟ اور اگر یہ کہو
کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت منسوخ ہو جائے گی اور وہ امتی ہو کر نزول
فرما دیں گے تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے آسمان پر کیا گناہ کیا جو ان
کی نبوت سلب کر لی گئی؟

جواب | تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باصف

بتوت تشریف لاتیں گے بتوت ان سے سلب نہیں کی جائے گی

اب رہا یہ سوال کہ پھر حضور خاتم النبیین کہاں رہے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے

نازل ہوں گے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل

کریں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے اور یہ بات حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء و کرام میں

سے کوئی بھی بنی آدم میں تو وہ اپنی بتوت پر عمل پیرانہ ہوں گے بلکہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوت پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک موقعہ پر

آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَوْكَانَ مُؤْسِىٰ حَيَا لَهَا وَسِعَةٌ إِلَّا

اتِّبَاعِيُّ۔ یعنی اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لئے

بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

جب تشریف لاتیں گے تو وہ بھی حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے

کیونکہ اگر چہ آپ باوصاف بتوت نزول فرمائیں گے مگر جونکہ دُور

خاتم النبیین کا چل رہا ہے اس لئے وہ آپ ہی کی شریعت کی پیروی

کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہندوستان کا وزیر عظم پاکستان

جاتا ہے تو پاکستان کے قیام کے دوران بھی وہ ہندوستان کا

وزیر اعظم رہتا ہے مگر قیام پاکستان کے دوران وہ قوانین پاک ہی پابندی کرتا ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب تشریف لا میں گے تو با وصفِ نبوت تشریف لا میں گے۔ مگر جب دور، خاتم النبیین کا دور ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ جیسے ایک صوبہ کا گورنر جب دوسرے صوبہ میں جاتا ہے تو وہ وصف گورنری کے ساتھ متصف رہتا ہے، مگر اس دوسرے صوبہ کے گورنر کے ماتحت ہوتا ہے وہاں اس کی حکومت نہیں چلتی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی تو ہوں گے لیکن حضور کی شریعت کے تابع ہوں گے ایک اور سوال :- یہاں ایک اور طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لا میں گے تو حنفی ہوں گے، یا شافعی یا مالکی، یا حنبلی؟

جواب :- تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مجتہد مطلق ہوں گے جس طرح امام ابوحنیف[ؓ]، امام شافعی[ؓ] وغیرہما مجتہد مطلق ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت کے مجتہد مطلق ہوں گے کتابوں میں اس کی صراحت ہے۔ لہ

لہ شرح عقائد کی شرح انبراس میں ہے کہ سُئِلَ شیخُ الاسلام رَبِّقِیْہ صَلَّیْہ پر

لَا بَنِيَّ بَعْدِ دِيْنِ نَّهَىٰ كَهُو

یہاں ایک اور طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب بھی سُن لو اس کے بعد بات ختم کرتا۔

ہوں۔ ایک روایت ہے الدر المنشور میں جواب ابن ابی شیبہ نے روایت

کی ہے علامہ سیوطیؒ نے آیت خاتم النبیین کے ذیل میں

ذکر کی ہے امام سیوطیؒ نے اس کی سند ذکر نہیں کی ہے میرے

پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے میں نے اس میں روایت تلاش

کی تاکہ اس کی سند دیکھوں کہ راوی کس درجہ کے ہیں مگر وہ روایت

مجھے مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ملی ابن ابی شیبہ کی ایک تفسیر

بھی ہے ممکن ہے اس میں یہ روایت ہو حضرت عائشہ صدّیقہ

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورؐ کو خاتم النبیین تو کہو، مگر لابنی بعدی

(باقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ عن عیسیٰ علیہ السلام مجتهد

اویقلد ؟ قال: يأخذ الأحكام عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلاد اسطورة (انتهی)

ثُمَّ ذَكَرَ رَصَابِ الْبَرَّ اسْ (قصةَ تَشْبِهُ بِقَصَّةِ خَرَافَةً، فَقَالَ: وَهَذَا بُهْتَانٌ

عَظِيمٌ وَلَا يُشْكِتُ عَاقِلٌ فِي أَنْ رَوَحَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَلَمَتَهُ لَا يَنْحَطُ عَنْ دِرَجَةِ الْمُجَهَّدِينَ

(ص ۲۷۴) مبحث اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم) وَمَا يَقُولُ: أَنَّهُ يَحْكُمُ

بِمَذْهَبِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ باطل، لا أَصْلَ لَهُ، وَكَيْفَ يُنَظِّنُ بَنِي أَنَّهُ يَقِيلُدْ مجتهدًا

مع أَنَّ الْمُجَهَّدَ مِنْ أَحَادِذَةِ الْأُمَّةِ (كَذَافِ الْأَصْلِ لِعَلِ الصَّحِيفَ الْأُمَّةِ)

لَا يَعْوِزُ لَهُ التَّقْلِيدُ، وَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْاجْتِهَادِ الْمُحْكَمِ (شامی ص ۲۷۴)

نہ کہو! فتاویٰ ایمانی کہتے ہیں کہ دیکھو! حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ خاتم النبیین تو کہو، مگر لا بنی بعدی نہ کہو، معلوم ہوا کہ حضورؐ کے بعد بھی بنی آسکتا ہے۔ قادریانی اس روایت کو خوب اچھا لتے ہیں۔

جواب:- تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں دُر منثور میں یہ روایت ہے وہ متعلقاً ایک دوسری روایت بھی ہے جو اس کا جواب ہے وہ روایت یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْأَنْبِيَاٰ لَا يَنْبَغِي بَعْدَهُ
اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے فرمایا کہ جب تم نے خاتم النبیین کہہ دیا تو اس کے بعد لا بنی بعدہ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰؑ کا نزول ہو گا۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا تو وہ حضورؐ سے پہلے بھی ہوں گے اور بعد میں بھی ہوں گے لہ یعنی حضرت مغیرہؓ نے حضرت عیسیٰؑ کے نزول کی حفاظت کے لئے لا بنی بعدہ کہنے سے منع فرمایا ہے، یہی حضرت عائشہؓ وَالی روایت کا بھی مطلب ہے۔

ان مختصر گذار شات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میں نے
آپ حضرات کا کافی وقت لے لیا، جس کے لئے میں معذرت
خواہ ہوں۔

وَآخِرُ دُعْوَا مَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تَهَّىٰ بِالْخَيْرٍ

